

PRESS RELEASE

For immediate release

December 13, 2023

Two-day 'International InsureImpact Conference 2023' begins in Karachi Pakistan needs significant transformation in the insurance industry: Dr. Shamshad

KARACHI, December 13: The Securities and Exchange Commission of Pakistan's (SECP) two-day International InsureImpact Conference 2023 was kicked off on Wednesday. Chief Guest, Federal Minister for Finance, Revenue, and Economic Affairs, Dr. Shamshad Akhtar, gave a key note address to the session, where a large number of industry experts and professionals from the insurance and financial sectors were present.

Dr. Shamshad Akhtar emphasized the insurance industry to recognize that the risks are growing, both globally and nationally, demanding adequate coverage for people and businesses. Thus, Pakistan needs to track and embrace emerging trends in the insurance sector. The global insurance industry is undergoing technological advancements, evolving customers' expectations, and a pressing need for sustainable practices. Dr. Shamshad said, Pakistan needs significant transformation in the insurance industry to address its fundamental challenges while catching up with global trends to maximize the value proposition of this industry. She advised concentrating on lifting the low penetration ratio of the insurance industry.

She said that SECP's 5-year strategic plan will set the tone for future policy, legal, and regulatory landscape. Incorporating the recommendation of the insurance industry reform committee would be a step in the right direction. She suggested focusing on mainstreaming global best practices, reducing the cost of doing business, digitizing the operations, and making effective use of technology generally.

SECP Chairman Akif Saeed, in his welcome address, informed the participants about SECP's determination to work closely with industry stakeholders to align a strategic vision, propel economic growth, and cater to rising community aspirations. Talking about the 5-year strategic plan, he added that five years down the lane, SECP expects to capitalize on the digital ecosystem, increased outreach of insurance, growth in the Takaful sector, and enhanced reinsurance capability of the sector.

Setting the onset of the conference, SECP Commissioner Insurance, Aamir Khan, in his address pointed towards the key focus areas of legal and governance structure, tax reforms, awareness and

perception, and the need for collaborations and embracing technology for rapid development of the sector.

Deputy Country Director, Asian Development Bank in Pakistan, Mr. Asad Aleem, commended the efforts of SECP to strategize the development of the insurance sector in Pakistan through a 5-year plan. He said that ADB would continue to support such initiatives for the sustainable development of the insurance sector. Musa Alban Bahar, Project Coordinator at TCIP, presented a case study on the Turkish Catastrophe Insurance Pool. Musa informed the participants that Turkey is one of the most seismically active regions in the world. He informed me that in Turkey, the compulsory earthquake insurance model is a very well-designed system. The 2023 earthquake in Turkey affected 14 million people, causing a total economic loss of 103 billion USD and an insured loss of \$5 billion. Musa said that the TCIP made payments of \$34 billion to more than 473,000 claims.

Waseem Khan, SECP's head of insurance, presented the 5-Year Strategic Plan and shared details of strategic outcomes and actionable items. Panel discussions were held on topics such as disaster risk and crop insurance, taxation issues, improving industry perception, and enhancing policyholder protection. The panelists highlighted certain key areas to be included in the draft 5-year plan before its final launch and requested SECP to continue its current inclusive approach by taking the industry onboard on all policy decisions.

ایس ای سی پی کی دوروزہ انٹرنیشنل انشورنس اسیکٹ کانفرنس 2023، کئی ممالک سے بیمہ ماہرین کی شرکت
پاکستان کو بیمہ انڈسٹری میں اہم اصلاحات کی ضرورت ہے: ڈاکٹر شمشاد

کراچی، دسمبر 13: سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی دوروزہ بین الاقوامی انشورنس اسیکٹ کانفرنس بدھ کو شروع ہوئی جس میں ترکی، سعودی عرب، ورلڈ بینک، انیشی ڈیولپمنٹ بینک، یو این ڈی پی اور بیمہ شعبے کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر برائے خزانہ، ریونیو، اور اقتصادی امور، ڈاکٹر شمشاد اختر کانفرنس کی مہمان خصوصی تھیں۔

ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ وہ عالمی اور قومی سطح پر بڑھتے کاروباری رسک کے خطرات لوگوں اور کاروباروں کے لیے مناسب انشورنس کی کوریج کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہوں نے بیمہ انڈسٹری پر زور دیا کہ وہ پاکستان کو انشورنس سیکٹر میں نئے رجحانات اور اس شعبے کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے کی جانب توجہ دیں۔ ڈاکٹر شمشاد کا کہنا تھا کہ عالمی بیمہ کی صنعت تکنیکی ترقی سے گزر رہی ہے، اور اس شعبے سے صارفین کی توقعات بڑھ رہی ہیں۔ ڈاکٹر شمشاد نے کہا کہ شعبے کے بنیادی مسائل سے نمٹنے اور بیمہ میں عوام کی شمولیت بڑھانے کے لیے انشورنس انڈسٹری میں اہم اصلاحات کی ضرورت ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایس ای سی پی کا پانچ سالہ سٹریٹجک منصوبہ مستقبل کی پالیسی، قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک کو نئے سرے سے تشکیل دے گا جبکہ بہترین سہولتوں کی فراہمی، کاروباری لاگت کو کم کرنے، آپریشنز کو ڈیجیٹائز کرنے اور ٹیکنالوجی کے موثر استعمال پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے انشورنس انڈسٹری ریفارم کمیٹی کی سفارشات کو اصلاحات میں شامل کرنے کی تجویز دی۔

ایس ای سی پی کے چیئرمین عاکف سعید نے کہا کہ ایس ای سی پی تمام شراکت داروں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بیمہ کے سٹریٹجک وژن آگے بڑھائے گا۔ عاکف نے تجویز کیا کہ بیمہ کی کمپنیاں بی ایس ای سی پی کے اس پلان کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اپنے لئے پانچ سالہ ٹارگٹ مقرر کریں ان اصلاحات سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے امید کی کہ ان اصلاحات کے نتیجے میں انشورنس کی شمولیت میں اضافہ ہوگا، کافل کے شعبے کو فروغ ملے گا، اور ملک میں ری بیمہ کی صلاحیت کو بڑھایا جائے گا۔

کانفرنس کا آغاز کرتے ہوئے، ایس ای سی پی کے کمشنر انشورنس، عامر خان نے ریگولیٹری فریم ورک، کمپنیوں میں گورننس کے ڈھانچے، ٹیکس اصلاحات، عوام میں آگاہی اور شعبے کی تیز رفتار ترقی کے لیے اشتراک اور ٹیکنالوجی کو اپنانے کی ضرورت پر توجہ دی۔

کانفرنس میں ایس ای سی پی کے انشورنس کے سربراہ وسیم خان نے 5 پانچ سالہ سٹریٹجک پلان پیش کیا اور اسٹریٹجک کے متوقع نتائج اور قابل عمل پروگرام کی تفصیلات بتائیں۔ کانفرنس میں ملک میں قدرتی آفات کے خطرات و نقصانات اور فصلوں کی بیمہ، ٹیکس کے مسائل، صنعت کے تاثر کو بہتر بنانے، اور پالیسی ہولڈر کے تحفظ کو بڑھانے جیسے موضوعات پر ماہرین کے مابین مباحثے ہوئے۔ شرکاء نے کمیشن کے پانچ سالہ منصوبے کے حتمی اجراء سے قبل مسودے میں شامل کیے جانے والے چند اہم شعبوں پر روشنی ڈالی اور تجاویز پیش کیں۔